

## Manoscritto MS. 52

Ordine per la benedizione dell'acqua e per le successive benedizioni (XVIII sec.)

Lingua: latino e arabo.

Cartaceo – 150 x 95.

6 carte non numerate + 68 pagine + 30 carte non numerate.

Campo scrittorio 138 x 72; 14 righe.


Scrittura realizzata in inchiostro nero e rosso, senza ulteriori elementi decorativi.

Contenuto:

Il manoscritto contiene l'ordine per la benedizione dell'acqua e il rito per numerose altre benedizioni. Tutta la seconda parte è in lingua araba, con indicazione in italiano delle benedizioni.

Legatura in pelle marrone con decorazioni a freddo, taglio in rosso con evidenti segni di consunzione.

A c. 1r sono presenti delle note manoscritte in spagnolo, che sembrerebbero riferiti ad una genealogia.



Libreria de Ordo Jd fa  
ad faciendam aquam benedictam.

Exorcismus Salis.

¶ Adiuutorium nostrum in nomine Domini.

¶ Qui fecit Caelum, et terram.

Exorcizo te, creatura Salis, per Deum  
vivum, per Deum verum, per Deum  
Sanctum: per Deum, qui te per Eliseum  
Prophetam in aquam mitti iussit, ut  
sanaretur sterilitas aque: ut efficiaris  
sal exorcizatum in salutem credentium,  
et sis omnibus sumentibus te sanitas  
anime, et corporis, et effugias, atque  
discedas a loco in quo aspersum fueris,  
omnis phantasia, et nequitia, uel uersutia

Exortatio

ايها المرثى المبارك واجب

عليك من الان وصاعدا ان تكون  
رفيقا لزوجتك ولا تخونها ولا تخونها  
ولا تشبهها بل تراقبها على العمل الذي  
يخرج قلبها وتكون صائنا لها وانا  
الحقير اسأل الله تعالى ان يكافئك  
علي قدر اعمالك لها وكونوا جسدا  
واحدا كما قال الرب واعلم ايضا  
انك اذا عملت كما قلت لك ان الله  
يساعدك ويعينك علي زمانك  
وينقذ لك ابواب رحمة ويستهل  
امورك ويكثر رزقك وخيراتك  
ويباركك ويوصلك الي الملكوت  
ع